

برائے فوری اجراء

## برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کمیونٹی کی سلامتی کو بہتر کرنے کے لیے what3words کے ساتھ شراکت داری کر رہی ہے

برامپٹن، آن (5 مئی 2021) – برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے what3words، آئی او ایس اور اینڈرائیڈ کے لیے ایک مفت موبائل ایپ، کے ساتھ شراکت کی ہے، جس نے دنیا کو 3 میٹر کے مربعوں میں تقسیم کر دیا ہے، جن میں سے ہر ایک کا منفرد تین الفاظ پر مشتمل پتہ ہے۔

سٹی آف برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے، جو اپنی کمیونٹی کی بہبود کے لیے وقف ہے۔ what3words برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو مقام کی درست شناخت کے ساتھ ہنگامی کالز کا جواب دینے میں مدد دے گی، تاکہ جائے وقوعہ پر جلدی امداد بھیجی جا سکے، جو ہنگامی حالات میں انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں، جو کھو چکے ہوں یا جنہیں مدد درکار ہو، کو تلاش کرنے میں مدد دے کر اور ہنگامی حالت میں مدد کی طلب گار جگہ کا عین تعین کر کے جان بچانے والی خدمات کی معاونت کرتی ہے۔

### what3words کیا ہے؟

what3words کسی مقام کے بارے میں بات کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ اس نے دنیا کو 3 میٹر کے مربعوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جن میں سے ہر ایک کا 3 الفاظ پر مشتمل پتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص، کسی بھی جگہ سے صرف 3 الفاظ کے ذریعے ان عین جگہوں – کسی عمارت کے مخصوص داخلی راستے سے لے کر کسی ہائیکنگ ٹریل پر کسی مقام یا کسی کسی کھیت میں دور کی جگہ تک – کا حوالہ دے سکتا ہے۔

اگر کوئی شخص ہنگامی حالت میں ہو اور اپنے مقام کو بیان کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہا ہو، تو وہ آسانی سے اور درست طریقے سے اپنے مقام کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے what3words استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص what3words ایپ کھول کر اپنے موجودہ مقام کا what3words پتہ جان سکتا ہے۔ what3words اس 3 میٹر مربع کے مقام کے لیے 3 الفاظ ظاہر کرے گی اور کالر وہ فائر ڈسپچ کو فراہم کر سکتا ہے، جو وقوعہ کی عین جگہ کا تعین کرنے کے لیے کنٹرول روم میں what3words کے نقشے میں انہیں درج کر سکتے ہیں۔

اگر کسی شخص کے فون پر what3words انسٹال شدہ ہے – یہ آف لائن کام کرتی ہے، لہذا وہ وائی فائی یا موبائل ڈیٹا کے بغیر بھی اپنا 3 الفاظ کا پتہ جان سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نقشہ ڈاؤن لوڈ نہ ہو، مگر 3 الفاظ کا پتہ پھر بھی ظاہر ہو گا۔

what3words اپنے صارفین کے مقام کا حساب نہیں رکھتی، یہ صارفین کو اپنا مقام شیئر کرنے کے لیے ایک طریقہ فراہم کرتی ہے، what3words اپنی موبائل ایپ اور میپ سائٹ پر تلاش کی گئی چیزوں کا ریکارڈ رکھتی ہے اور اسے علم ہو گا یہ تلاش کس قصبے یا شہر سے کی گئی تھی، مگر یہ انفرادی درجے پر مقام کا ڈیٹا نہیں رکھتی۔

what3words کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ فرمائیں

### اقتباسات

"ایک صحت بخش اور محفوظ شہر کے طور پر، سٹی آف برامپٹن میں ہمارے لیے کمیونٹی کی سلامتی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ what3words ہماری فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم کو مقام کا زیادہ بہتر تعین کرنے کے قابل بنائے گی، جو ضرورت کے وقت ہنگامی کالز کا زیادہ تیزی اور درستی سے ردعمل دینے میں مدد کرے گا۔ میں برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس ممکنہ طور پر جان بچانے والی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ایک جدت پسند شہر ہے اور ہم مسلسل ان خدمات کو بہتر کرنے کے نئے طریقے تلاش کرنے کے لیے وقف ہیں، جو ہم اپنے رہائشیوں کو فراہم کرتے ہیں۔ what3words کسی بھی عین مقام کا حوالہ دینے کا ایک سادہ طریقہ ہے، جو ہماری فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے وقف عملے کو ہنگامی حالات میں ہماری کمیونٹی کا تحفظ کرنے میں لگنے والے وقت کو مزید تیز کرے گا۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ایک اچھی طرح چلائے جانے والے شہر کے طور پر، ہم اپنے رہائشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وقت قیمتی شراکت داریوں کو استعمال کرنے کے طریقوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ what3words کے ساتھ شراکت داری کر کے، خود کو کسی ہنگامی حالت میں گھرا پانے والا کوئی بھی شخص فائر آسانی اور درستی کے ساتھ ڈسپیچ کے ساتھ اپنا مقام شیئر کرنے کے قابل ہو گا۔ یہ ایسے موقع پر وقت بچائے گا، جب یہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہو اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو معاونت کے طلب گار لوگوں کو تیزی اور جلدی سے ڈھونڈنے کے قابل بنائے گا۔"

- شارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"what3words دنیا کو 3 میٹر کے مربعوں میں تقسیم کر کے مقام کے متعلق بات کرنا آسان بناتی ہے، جن میں سے ہر ایک کا 3 الفاظ پر مشتمل پتہ ہوتا ہے۔ کسی مشکل یا خطرناک صورتحال میں، مقام جیسی تفصیلات پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو سکتا ہے، مگر کسی ہنگامی حالت میں ہر سیکنڈ معنی رکھتا ہے۔ what3words ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو ہنگامی حالات میں عین مقام کا تعین کرنے کے قابل بنائے گی، جس کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی کی خدمت کے لیے برامپٹن میں کسی بھی جگہ زیادہ درستی اور تیزی سے پہنچ سکیں گے۔"

- بل بوائز، چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن میں، ہم کونسل کے اس دور کی ترجیح، برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے، کو آگے بڑھانے کے لیے وقف ہیں اور ہماری فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم اس عمل میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ what3words کے ساتھ ہماری شراکت داری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے عملے کو ضرورت مند لوگوں تک، بے شک وہ کہیں بھی ہوں، تیزی اور درستی کے ساتھ پہنچا کر ہمارے شہر میں کمیونٹی کی سلامتی کو بہتر بنائے گی۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)